

حکومت پاکستان  
بینظیر انکم سپورٹ پروگرام  
\*\*\*\*\*

پریس ریلیز

**بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرہ خاندانوں کو امدادی رقوم  
پہنچانے کا کام تیزی سے جاری**

**بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبرز کا آغاز کر دیا**

اسلام آباد: بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سیلاب متاثرین کی مالی مدد کرنے کیلئے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے سیلاب متاثرین تک فلڈ ریلیف کیش اسسٹینس کے تحت امدادی رقوم تقسیم کرنے کیلئے متاثرہ علاقوں میں خصوصی ادائیگی مراکز قائم کر دیئے ہیں۔ یہ ادائیگی مراکز متاثرین سیلاب میں 25000 روپے فی خاندان کے حساب سے امدادی رقم تقسیم کر رہے ہیں۔ متاثرین سیلاب کثیر تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر امدادی رقوم کے حصول کیلئے ان مراکز میں آرہے ہیں۔ گزشتہ روز 58 ہزار سے زائد متاثرہ افراد امدادی رقم کے حصول کیلئے ادائیگی مراکز پر آئے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے متاثرین کی مدد کیلئے ہر ادائیگی مرکز میں اپنے عملے کو تعینات کر دیا ہے تاکہ متاثرین کی ہر وقت مالی مدد یقینی بنائی جاسکے۔

اب 353119 متاثرہ خاندانوں میں مجموعی طور پر 8882068536 روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ بلوچستان میں 42862 خاندانوں میں 1,085,312,744 روپے تقسیم کئے جا چکی ہے۔ سندھ کے 211235 خاندانوں میں 5,307,078,670 روپے تقسیم کئے گئے ہیں۔ خیبر پختونخواہ میں 35053 خاندانوں میں 881,137,000 روپے جبکہ صوبہ پنجاب میں 63,969 خاندانوں میں 1,608,540,122 روپے تقسیم کئے جا چکے ہیں۔

وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ/ چیئر پرسن بی آئی ایس پی محترمہ شازیہ مری کی خصوصی ہدایات پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بلوچستان، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی ہیلپ لائن نمبرز کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ ہیلپ لائن کے قیام کا مقصد ملک بھر میں جاری امدادی رقوم کی تقسیم کے عمل کو موثر اور شفاف بنانا ہے تاکہ کسی بھی متاثرہ خاندان کو امدادی رقم کے حصول میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سیلاب متاثرین بلوچستان میں فون نمبر 03011016168 پر، سندھ میں فون نمبر 03011016163 پر، پنجاب میں فون نمبر 03011016162 پر اور خیبر پختونخوا میں فون نمبر 03011016165 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

متاثرہ خاندان فلڈ ریلیف کیش اسسٹینس پروگرام میں رجسٹریشن کے لیے اپنا CNIC نمبر 8171 پر بھیج سکتے ہیں اور ادائیگی کا پیغام موصول ہونے پر وہ اپنی رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی قریبی کیمپ سائٹ پر جا سکتے ہیں۔